

English Translation Test-1

Time Allowed: 40Minutes

Note:

1. Assignment must be handwritten.
2. Upload it in "Quiz/Assignment" section, otherwise it will not be checked.

Name: **faiza saleem**

Batch: **OB 39**

Campus: **Rwl online**

Q. Translate the following into English, keeping in view the idiomatic/figurative expression.
(10)

اگر دنیا آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچتی، اگر اللہ کے خوف سے آپکی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اگر دوزخ کا تصور آپ میں خوف خدا پیدا کرتا ہے، اگر آپ اللہ کی عبادت اسطرح کرتے ہیں جس طرح کرنی چاہیے، اگر نیکی آپ کو اپنی طرف راغب کرتی ہے اور آپ کے پاؤں برائی کے راستے پر جانے سے رک جاتے ہیں تو پھر آپ صالح ہیں۔ کچھ صالح ہوتے ہیں، کچھ صالح بنتے ہیں۔ صالح ہونا خوش قسمتی کی بات ہے۔ صالح بننا مسلسل تذکیہ اور مجاہدے کا عمل ہے۔ اس میں وقت لگتا ہے اور تکلیفیں بھی سہنا پڑتی ہیں۔

If the world is not attracting you towards its charm, if your eyes filled with the fear of Allah, if the imagination of hell is producing the fear of Allah, if you are praying is a way that to be done, if good deed is attracting you itself, and your feet slopes on the way to bad doings, then you are ~~pious~~ pious. To be pious, is a good luck. Some are pious, and some becomes pious. To become pious, is a continuous process of struggle and purification.